



سوال

(298) بیوی سے غائب بنتے کی مدت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ایک غریب نوجوان ہوں لیکن بچہ اللہ شادی شدہ ہوں جس ملک میں کام کرتا ہوں وہاں کا قانون چند ملازمتوں کے سوا دیگر لوگوں کو بیوی کے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دیتا، میری تنخواہ بھی اچھی ہے، مجھے کرایہ مکان بھی ملتا ہے، میرے پاس ڈگریاں بھی اور ڈپلومے بھی ہیں لیکن مجھے بیوی کو اپنے پاس بلانے کی اجازت نہیں ہے تو اس سلسلے میں دین حنیف کا کیا حکم ہے جبکہ مجھے رخصت ایک سال بعد بلکہ چودہ ماہ ملتی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شوہر کے غائب بنتے کی مدت کو بعض صحابہ نے چار ماہ اور بعض نے چھ ماہ بتایا ہے لیکن یہ مدت بیوی کے شوہر سے واپس آنے کے مطالبہ کے بعد ہے یعنی جب چھ ماہ کی مدت گزر جائے، بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ آجائے اور اس کے لئے آنا ممکن بھی ہو تو اس کے لئے واپس آنا لازم ہے اور اگر نہ آئے تو وہ فسخ نکاح کے لئے معاملہ قاضی کے پاس لے جاسکتی ہے اور اگر بیوی شوہر کو باہر بنتے کی اجازت دے دے خواہ مدت کتنی ہی طویل ہو اور ایک سال یا دو سالوں سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شوہر کو واپس بلانا بیوی کا حق ہے اور اگر وہ اپنے حق کو ساقط کر دے تو پھر اسے فسخ نکاح کا حق نہیں ہے بشرطیکہ وہ شوہر کی عدم موجودگی پر راضی ہو اور وہ اسے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لئے خرچہ بھیجتا رہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب النکاح: جلد 3 صفحہ 257

محدث فتویٰ